

Sūrat al-Masad ***(The Palm Fibre)***

سورة المسد

Súrah – 111

No of Ayat – 5

English Translation : Ali Quli Qara'i

Urdu Translation : Allamma Zeeshan Haider Jawadi

Hindi Translation : Farrukh Khan & Ahmed

For any errors / comments please write to: rehanL@hotmail.com

Kindly recite Sura E Fatiha for Marhumeen of all those who have worked towards making this small work possible.

This is a ‘Meccan’ sūrah.

The surah that mentions the Palm Fibre rope that in Hellfire shall be twisted around the neck of the wife of the Prophet’s uncle, who bitterly opposed Islam; for she took great pride in wearing an ostentatious necklace she became known for and would slip by night to strew thorns and prickly plants in the Prophet’s path to injure his feet. It takes its name from verse 5 in which the phrase “*ḥablun min masad*” (meaning “a rope of palm fibre”) occurs.

It is narrated that recitation of this surah is good for relieving back pains and reciting it before sleeping keeps one safe in the night.

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِ مُحَمَّدٍ

**O' Allāh send Your blessings on Muhammad
and the family of Muhammad.**

اے اللہ! رحمت فرما محمد و آل (ع) محمد پر

ऐ अल्लाह मुहम्मद और आले मुहम्मद पर अपनी सलामती रख

O' Allāh send Your blessings on Muhammad and the family of Muhammad

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**In the Name of Allāh,
the All-beneficent, the All-merciful.**

عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے

अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपालु और अत्यन्त दयावान हैं।

bi-smi llāhi r-raḥmāni r-raḥīmi

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴿١﴾

Perish the hands of Abu Lahab, and perish he!

ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے

ٹوٹ गए अबू लहब के दोनों हाथ और वह स्वयं भी विनष्ट हो गया!

tabbat yadā 'abī lahabin wa-tabba

مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴿٢﴾

**Neither his wealth availed him,
nor what he had earned.**

نہ اس کا مال ہی اس کے کام آیا اور نہ اس کا کمایا ہوا سامان ہی

نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ وہ کچھ جو اس نے کمایا

mā 'aġnā 'anhu māluhū wa-mā kasaba

سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ﴿٣﴾

Soon he will enter the blazing fire,

وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہو گا

वह शीघ्र ही प्रज्वलित भड़कती आग में पड़ेगा,

sa-yaṣlā nāran dāta lahabin

﴿ ٤ ﴾ وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ

and his wife [too], the firewood carrier,

اور اس کی بیوی جو لکڑی ڈھونے والی ہے

اور उसकी स्त्री भी ईधन लादनेवाली,

wa-mra'atuhū ḥammālata l-ḥaṭabi

﴿ ٥ ﴾ فِي جِدِّهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ

with a rope of palm fibre around her neck.

اس کی گردن میں بٹی ہوئی رسی بندھی ہوئی ہے

उसकी गरदन में खजूर के रसों की बटी हुई रस्सी पड़ी है

fī ġīdihā ḥablun min masadin

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِ مُحَمَّدٍ

**O' Allāh send Your blessings on Muhammad
and the family of Muhammad.**

اے اللہ! رحمت فرما محمد و آل (ع) محمد پر

ऐ अल्लाह मुहम्मद और आले मुहम्मद पर अपनी सलामती रख

O' Allāh send Your blessings on Muhammad and the family of Muhammad

**Please recite
Sūra E Fātiḥa
for
ALL MARHUMEEN**

For any errors / comments please write to: rehanL@hotmail.com

Kindly recite Sura E Fatiha for Marhumeen of all those who have worked towards making this small work possible.